

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس ک نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل ، اور خدا کی محبت ، اور روح القدس کی میل جول آپ سب ک ساتھ رہیں

اور اپنی روح ک ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئی م اپن گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس طرح مقدس اسرار کو منان ک لئ خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں اور آپ ک لئ ، میرے بھائیو اور بہنیں ، ک میں نہ بت گناہ کیا ، میرے خیالات میں اور میرے الفاظ میں ، میں نہ کیا کیا اور میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری انتہائی تکلیف دہ غلطی ک ذریعہ ؛ لہذا میں مبارک مریم کو ہمیشہ ک ویرگین سے پوچھتا ہوں ، تمام فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے بھائیو اور بہنیں ، میرے لئ خداوند مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر ، مار گناہوں کو معاف کرو ، اور ہمیں لازوال زندگی میں لائیں

آمین

Portuguese (Português)

Ritos introdutórios

Sinal da cruz

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Um homem

Saudações

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a Comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês.

E com seu espírito.

Ato penitencial

Irmãos (irmãos e irmãs), vamos reconhecer nossos pecados, E assim nos prepare para celebrar os mistérios sagrados.

Eu confesso a Deus Todo-Poderoso E para você, meus irmãos e irmãs, que eu pecou muito, em meus pensamentos e em minhas palavras, no que fiz e no que não fiz, através da minha culpa, através da minha culpa, através da minha falha mais grave; Portanto, pergunto a Blessed Mary Ever-Virgin, todos os anjos e santos, E vocês, meus irmãos e irmãs, orar por mim ao Senhor nosso Deus.

Que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, Perdoe-nos nossos pecados, e nos traga para a vida eterna.

Um homem

Urdu (اردو)

کبری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ
کو برکت دیتے ہیں، م آپ کو پسند
کرتے ہیں، م تیری تسبیح کرتے
ہیں، م تیری عظیم شان کے لیے
تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خُداوند
خُدا، آسمانی بادشاہ، ا خدا، قادر
مطلق باپ خُداوند یسوع مسیح،
اکلوتا بیٹا، خُداوند خُدا، خُدا کا بر،
باپ کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہیں، م پر رحم فرما آپ
دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
ماری دعا قبول کرو تم باپ کے
دائیں ہاتھ بیٹھو، م پر رحم
فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی مقدس
ہیں، صرف تُو ہی رب صرف
آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس
کے ساتھ، خدا باپ کے جلال میں
آمین

جمع کریں

میں نماز پڑھ دو.

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

Portuguese (Português)

Kyrie

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Gloria

Glória a Deus nas alturas, e na terra paz
aos homens de boa vontade. Nós te
louvamos, nós te abençoamos, nós te
adoramos, nós te glorificamos, damos-te
graças pela tua grande glória, Senhor
Deus, Rei celestial, Ó Deus, Pai Todo-
Poderoso. Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de
Deus, Filho do Pai, tiras os pecados do
mundo, tenha piedade de nós; tiras os
pecados do mundo, receba nossa
oração; estás sentado à direita do Pai,
tenha piedade de nós. Pois só você é o
Santo, só tu és o Senhor, só tu és o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Um
homem.

Coletar

Rezemos.

Um homem.

Liturgia da Palavra

Primeira leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Urdu (اردو)

ذم داری زیور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

انجیل

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے ایک N

پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنانا والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں میں سے میں ایک خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا، خدا، روشنی سے روشنی، سچا خدا سے سچا خدا، پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا و پھر جلال میں آگے گا زند اور مرد کا

Portuguese (Português)

Salmo responsável

Segunda leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Evangelho

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Uma leitura do santo Evangelho segundo N.

Glória a ti, ó Senhor

O Evangelho do Senhor.

Louvado seja, Senhor Jesus Cristo.

Profissão de fé

Eu acredito em um Deus, o Pai todo poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio em um Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai; por meio dele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e pelo Espírito Santo foi encarnado da Virgem Maria, e tornou-se homem. Por nossa causa foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Ele virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim. Eu creio no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é

Urdu (اردو)

فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی
کی کوئی انتہا نہ ہوگی میں روح
القدس پر یقین رکھتا ہوں، خداوند،
زندگی دینے والا، جو باپ اور بیٹے
سے نکلتا، جو باپ اور بیٹے کے
ساتھ سجدہ اور جلالی، جس نے
نبیوں کے ذریعے کلام کیا میں
ایک، مقدس، کینہولک اور رسولی
چرچ پر یقین رکھتا ہوں میں
گناہوں کی معافی کے لیے ایک
بپتسمہ کا اقرار کرتا ہوں اور میں
مردوں کے جی اٹھنے کا منتظر
ہوں اور آؤ، والی دنیا کی زندگی
آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

ا رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)، کے

میری اور تمہاری قربانی ہو سکتا

الہ کو قبول ہو قادر مطلق

باپ.

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے

اس کے نام کی تعریف اور جلال کے

لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس

کے تمام مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م ان کو رب کی طرف اٹھاتے

ہیں

Portuguese (Português)

adorado e glorificado, que falou pelos
profetas. Creio na Igreja una, santa,
católica e apostólica. Confesso um
batismo para o perdão dos pecados e
espero a ressurreição dos mortos e a
vida do mundo vindouro. Um homem.

Homilia

Oração universal

Oramos ao Senhor.

Senhor, ouça nossa oração.

Liturgia da Eucaristia

Ofertório

Bendito seja Deus para sempre.

**Orem, irmãos (irmãos e irmãs), que o
meu sacrifício e o seu pode ser aceitável
a Deus, o pai todo poderoso.**

Que o Senhor aceite o sacrifício em suas
mãos para louvor e glória do seu nome,
para o nosso bem e o bem de toda a sua
santa Igreja.

Um homem.

Oração Eucarística

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Elevem seus corações.

Nós os elevamos ao Senhor.

Urdu (اردو)

آئی م رب اپن خدا کا شکر ادا
کریں

یہ صحیح اور منصفانہ
پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیر جلال سے
معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند کے نام پر
آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں
ا رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبار نہ آئیں
یا: جب م یہ روٹی کھاتے ہیں اور
یہ پیالہ پیتے ہیں، م تیری موت کا
اعلان کرتے ہیں، ا رب، جب تک
آپ دوبار نہ آئیں یا: ہمیں بچا،
دنیا کے نجات دہندے، آپ کی صلیب
اور قیامت کی طرف سے آپ نہ
میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دہندے کے حکم پر اور خدائی
تعلیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا ،
م یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں:
ہمارے باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام : تیری بادشاہی
آئی، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز
کی روٹی دے، اور ہماری خطائیں
معاف فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں
کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے
خلاف گناہ کرتے ہیں اور ہمیں
آزمائش میں نہ ڈالیں، لیکن ہمیں
برائی سے بچا

ہمیں برائی سے نجات دے، ا
رب، ہم دعا کرتے ہیں، م ربانی
سے ہمارے دنوں میں امن عطا

Portuguese (Português)

Demos graças ao Senhor nosso Deus.

É certo e justo.

Santo, Santo, Santo Senhor Deus dos
Exércitos. Céu e terra estão cheios de
tua glória. Hosana nas alturas. Bem-
aventurado aquele que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas.

O mistério da fé.

Nós proclamamos a tua morte, ó Senhor,
e professar sua ressurreição até que
você venha novamente. Ou: Quando
comemos este Pão e bebemos este
Cálice, proclamamos a tua morte, ó
Senhor, até que você venha novamente.
Ou: Salva-nos, Salvador do mundo, por
sua Cruz e Ressurreição você nos
libertou.

Um homem.

Rito de Comunhão

Ao comando do Salvador e formados
pelo ensinamento divino, ousamos dizer:

Pai Nosso que estais no céu, santificado
seja o teu nome; venha o teu reino, tua
vontade seja feita na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e
perdoa-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.

Livrai-nos, Senhor, rogamos, de todo
mal, graciosamente conceda paz em
nossos dias, que, com a ajuda da tua

Urdu (اردو)

فرما، ک تیری رحمت سے ہم
میشہ گنا سے آزاد ہو سکتے
ہیں اور تمام پریشانیوں سے
محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید کا
انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے
نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد
بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال
آپ کا اب اور میسہ کے لئے۔
خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ
کے رسولوں سے کہا: امن میں آپ
کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ
کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت
دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان
پر، اور فضل سے اس امن اور
اتحاد عطا فرمائے آپ کی مرضی
کے مطابق۔ جو میسہ اور اب تک
زندہ اور حکومت کرتے ہیں
آمین

خداوند کی سلامتی میسہ آپ کے
ساتھ رہے
اور اپنی روح کے ساتھ
آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان
پیش کریں
خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا
کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے
برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے
ہو، ہمیں امن عطا فرما۔
خدا کے برے کو دیکھو، اس کو دیکھو
جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا
مبارک ہیں وہ لوگ جو برے کے
عشائے کے لیے بلائے گئے ہیں
اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں
کہ تم میری چہت کے نیچے داخل
ہو، لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور میری
جان ٹھیک ہو جائے گی
مسیح کا جسم (خون)

Portuguese (Português)

misericórdia, podemos estar sempre
livres do pecado e a salvo de toda
aflição, enquanto esperamos a bendita
esperança e a vinda de nosso Salvador,
Jesus Cristo.

Para o reino, o poder e a glória são seus
agora e sempre.

Senhor Jesus Cristo, que disse aos
vossos Apóstolos: Paz te deixo, minha
paz te dou, não olhe para os nossos
pecados, mas na fé da vossa Igreja, e
graciosamente lhe conceda paz e
unidade de acordo com sua vontade.
Que vivem e reinam para todo o sempre.

Um homem.

A paz do Senhor esteja sempre
convosco.

E com o seu espírito.

Ofereçamos uns aos outros o sinal da
paz.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, tenha piedade de nós.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, tenha piedade de nós.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, nos conceda a paz.

Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que
tira o pecado do mundo. Bem-
aventurados os chamados à ceia do
Cordeiro.

Senhor, eu não sou digno que você deve
entrar sob o meu teto, mas apenas diga
a palavra e minha alma será curada.

O Corpo (Sangue) de Cristo.

Urdu (اردو)

آمین

میں نماز پڑھنے دو۔

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش

رکھ، باپ، اور بیٹا، اور روح

القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا

یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا

اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،

اپنی زندگی سے خداوند کی تمجید

کرو یا: سکون سے جاؤ

خدا کا شکر

Portuguese (Português)

Um homem.

Rezemos.

Um homem.

Ritos finais

Bênção

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Que Deus todo poderoso te abençoe, o

Pai, e o Filho, e o Espírito Santo.

Um homem.

Demissão

Vá em frente, a Missa está terminada.

Ou: Vá e anuncie o Evangelho do Senhor.

Ou: Vá em paz, glorificando ao Senhor

por sua vida. Ou: Vá em paz.

Graças a Deus.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC